



Noble Quran الْقُرْآنُ الْحَكِيمُ

Urdu Translation (Shah Abdul Qadir) حضرت شاہ عبدالقادر اردو ترجمہ بمعہ عربی

سورة النور بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا

.1

ایک سورت ہے ہم نے اتاری، اور ذمہ پر لازم کی (احکام کو فرض کیا)،

وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

اور اتاری اس میں باتیں صاف (واضح) شاید تم یاد رکھو۔

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

.2

بدکاری کرنے والی عورت اور مرد سومار و ایک ایک کو دونوں میں سے، سوچوٹ تچی (کوڑے)۔

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

اور نہ آئے تم کو ان پر ترس، اللہ کے حکم چلانے میں۔ اگر تم یقین رکھتے ہو اللہ پر اور پچھلے دن پر۔

وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

اور دیکھیں ان کا مارنا کوئی لوگ مسلمان۔

الَّذِينَ لَا يَنْكِحُوا إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً

بدکار مرد نہیں بیاہتا مگر عورت بدکار یا شریک والی (مشرک)۔

وَالَّذِينَ لَا يَنْكِحُونَهَا إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً

اور بدکار عورت کو بیاہ نہیں لیتا مگر بدکار مرد یا شریک والا (مشرک)۔

وَحُرْمَةُ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

اور یہ حرام ہوا ہے ایمان والوں پر۔

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ يَأْتُوا بِأَمْبَعَةٍ شُهَدَاءَ

اور جو لوگ عیب لگاتے ہیں قید والیوں کو (پاکدامن عورتوں پر)۔ پھر نہ لائے چار مرد شاہد (گواہ)،

فَأَجْلِدُوهُمْ شَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا

تو مارو ان کو اسی چوٹ پتھی (کوڑے) کی، اور نہ مانو ان کی کوئی گواہی کبھی۔

وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

اور وہی لوگ ہیں بے حکم۔

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

مگر جنہوں نے توبہ کی اس پیچھے (کے بعد) اور سنوار پکڑی (اصلاح کر لی)۔ تو اللہ بخشتا ہے مہربان۔

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاحَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ

اور جو عیب لگائیں اپنی جو روؤں (بیویوں) کو اور شاہد (گواہ) نہ ہوں ان پاس سوا اپنی جان،

فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ^ل

تو ایسے کسی کی گواہی یہ کہ چار گواہی دیوے اللہ کے نام کی، مقرر (کہ ضرور) یہ شخص سچا ہے۔

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

اور پانچویں یہ کہ اللہ کی پھٹکار ہو اس شخص پر اگر وہ جھوٹا۔

وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ^ل

اور عورت سے ٹلتی ہے ماریوں کہ گواہی دے چار گواہی اللہ کے نام کی، مقرر (کہ ضرور) وہ شخص جھوٹا ہے۔

وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

اور پانچویں یہ کہ اللہ کا غضب آئے اس عورت پر اگر وہ شخص سچا ہے۔

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ

اور کبھی نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے اوپر اور اسکی مہر (رحمت)،

وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ

اور یہ کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، حکمتیں جانتا، تو کیا کچھ ہوتا۔

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ^ج

جو لوگ لائے ہیں یہ طوفان تمہیں میں ایک جماعت ہیں۔

لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ^ج

تم اس کو نہ سمجھو بُرا اپنے حق میں۔ بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے حق میں۔

لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ^ج

ہر آدمی کو ان میں سے پہنچنا ہے، جتنا کما یا گناہ،

وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

اور جن نے اٹھایا ہے اسکا بڑا بوجھ، اس کو بڑی مار ہے۔

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا

کیوں نہ تم نے جب اس کو سنا تھا،

خیال کیا ہوتا ایمان والے مردوں نے اور عورتوں نے اپنے لوگوں پر بھلا خیال۔

وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ

اور کہا ہوتا یہ صریح طوفان (واضح بہتان) ہے؟

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ^ج

کیوں نہ لائے وہ اس بات پر چار شاہد (گواہ)؟

فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَافِرُونَ

پھر جب نہ لائے شاہد (گواہ)، تو وہ لوگ اللہ کے ہاں وہی ہیں جھوٹے۔

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

اور کبھی نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اسکی مہر (رحمت) دنیا اور آخرت میں،

لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

البتہ تم پر پڑتی اس چرچا کرنے پر کوئی آفت بڑی۔

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ

جب لینے لگے تم اس کو اپنی زبانوں پر اور بولنے لگے اپنے منہ سے جس چیز کی تم کو خبر نہیں،

وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ

اور تم سمجھتے ہو اس کو ہلکی بات۔ اور یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے۔

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا

اور کیوں نہ ہو جب تم نے اس کو سنا تھا، کہا ہوتا ہم کو نہیں لائق کہ منہ پر لائیں یہ بات؟

سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

اللہ تو پاک ہے، یہ بڑا بہتان ہے۔

يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا الْمِثْلَ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

اللہ تم کو سمجھاتا ہے کہ پھر نہ کرو ایسا کام کبھی، اگر تم یقین رکھتے ہو۔

وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ

اور کھولتا ہے اللہ تمہارے واسطے پتے (نشانیوں)،

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

اور اللہ سب جانتا ہے حکمت والا۔

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ^ج

جو لوگ چاہتے ہیں کہ چرچا ہو بدکاری کا ایمان والوں میں، اُن کو دکھ کی مار ہے دنیا اور آخرت میں۔

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ سَرُوفٌ رَحِيمٌ

اور کبھی نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اسکی مہر (رحمت) اور یہ کہ اللہ نرمی کرنے والا ہے مہربان تو کیا کچھ ہوتا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ^ج

اے ایمان والو! نہ چلو قدموں پر شیطان کے،

وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ^ج

اور جو کوئی چلے گا قدموں پر شیطان کے، سو وہ یہی بتائے گا بے حیائی اور بُری بات۔

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا

اور کبھی نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اسکی مہر (رحمت)، نہ سنو ر تا تم میں ایک شخص کبھی۔

وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ^ظ

لیکن اللہ سنو ر تا ہے جس کو چاہے،

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

اور اللہ سب سنتا ہے جانتا۔

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ

اور قسم نہ کھائیں بڑائی والے (صاحب فضل) تم میں، اور کشائش والے (صاحب حیثیت)،

أَنْ يُؤْتُوا أَوْلِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

اس سے کہ (نہ) دیں ناتے والوں (رشتے داروں) کو اور محتاجوں کو اور وطن چھوڑنے والوں کو اللہ کی راہ میں،

وَلِيَعْفُوا وَلِيَصْفَحُوا

اور چاہیے معاف کریں اور درگزر کریں۔

أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ

کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان۔

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

جو لوگ عیب لگاتے ہیں قید والی (پاک دامن) بے خبر ایمان والیوں کو، انکو پھٹکار ہے دنیا میں اور آخرت میں،

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

اور ان کو بڑی مار۔

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَمْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

جس دن بتائیں گی ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں، جو کچھ کرتے تھے۔

يَوْمَئِذٍ يُؤْفِقُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ

اس دن پوری دے گا ان کو اللہ انکی سزا جو چاہیے،

وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ

اور جانیں گے کہ اللہ وہی ہے سچا کھولنے (حق کو سچ کرنے) والا۔

الْحَيْثَاتُ لِلْحَيْثِينَ وَالْحَيْثُونَ لِلْحَيْثَاتِ

گندیاں (خبیث عورتیں) ہیں گندوں (خبیث مردوں) کے واسطے

اور گندے (خبیث مرد) واسطے گندیوں (خبیث عورتوں) کے۔

وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

اور ستھریاں (پاکیزہ عورتیں) ہیں واسطے ستھروں (پاکیزہ مردوں) کے

اور ستھرے (پاکیزہ مرد) واسطے ستھریوں (پاکیزہ عورتوں) کے۔

أُولَئِكَ مُدْبِرُونَ مِمَّا يَقُولُونَ

وہ لوگ بے لگاؤ (مُبرّا) ہیں اُن باتوں سے، جو کہتے ہیں،

هُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

ان کو بخشنا (بخشش) ہے اور روزی ہے عزت کی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اے ایمان والو!

لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا^ج

مت جایا کرو کسی گھروں میں اپنے گھروں کے سوا جب تک نہ بول چال کرو اور سلام دے لو اس گھر والوں پر۔

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

یہ بہتر ہے تمہارے حق میں، شاید تم یاد رکھو۔

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ^ط

پھر اگر (موجود) نہ پاؤ اس میں کوئی، تو اس میں نہ جاؤ، جب تک پروانگی (اجازت) نہ ہو تم کو۔

وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ امْرُجُوا فَأْمُرُوا^ط

اور اگر تم کو کہے کہ پھر (لوٹ) جاؤ، تو پھر (لوٹ) جاؤ،

هُوَ أَرْسَى لَكُمْ^ج

اسی میں خوب ستھرائی (پاکیزگی) ہے تمہاری،

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

اور اللہ جو کرتے ہو جانتا ہے۔

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ^ج

نہیں گناہ تم پر اس میں کہ جاؤ ان گھروں میں جہاں کوئی نہیں بستا اس میں کچھ چیز ہو تمہاری۔

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ

اور اللہ کو معلوم ہے جو کھولتے (ظاہر کرتے) ہو اور جو چھپاتے ہو۔

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا أَرْوَاجَهُمْ^ج

کہہ دے ایمان والوں کو، نیچی رکھیں ٹک اپنی آنکھیں، اور تھامتے رہیں اپنے ستر (شرم گاہیں)۔

ذَلِكَ أَرْوَاجُهُمْ^ط

اس میں خوب ستھرائی (پاکیزگی) ہے ان کی۔

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

اللہ کو خبر ہے جو کرتے ہیں۔

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

اور کہہ دے ایمان والیوں کو، نیچی رکھیں ٹک اپنی آنکھیں اور تھامتے رہیں اپنے ستر (شرم گاہیں)،

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا^ط

اور نہ دکھائیں اپنا سنگار مگر جو کھلی چیز ہے اس میں سے،

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ^ط

اور ڈال لیں اپنی اوڑھنی اپنے گریبان پر۔

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ

اور نہ کھولیں اپنا سنگار، مگر اپنے خاوند کے آگے یا اپنے باپ کے یا خاوند کے باپ کے،

أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ

یا اپنے بیٹے کے یا خاوند کے بیٹے کے، یا اپنے بھائی کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے،

أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَمْلَكَتٍ أَيْمَانُهُنَّ

یا اپنی عورتوں کے، یا اپنے ہاتھ کے مال کے،

أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِمْرَةِ مِنَ الرِّجَالِ

یا کمروں (ملازم) کے جو مرد کچھ غرض نہیں رکھتے،

أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

یا لڑکوں کے جنہوں نے نہیں پہنچانے عورتوں کے بھید۔

وَلَا يُضْرَبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ^ج

اور نہ دھمکائیں اپنے پاؤں سے کہ جانا پڑے (ظاہر ہو) جو چھپاتی ہیں اپنا سنگار۔

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

اور توبہ کرو اللہ کے آگے سب مل کر، اے ایمان والو؟ شاید تم بھلائی پاؤ۔

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ^ج

اور بیاہ دو راندوں (مجردوں) کو اپنے اندر، اور جو نیک ہوں تمہارے غلام اور لونڈیاں۔

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ^ط

اگر وہ ہوں گے مفلس اللہ ان کو غنی کرے گا اپنے فضل سے۔

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

اور اللہ سہمی (گنجائش) والا ہے سب جانتا۔

وَلَيْسْتَ عَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ^ط

اور آپ کو تھامتے رہیں جن کو نہیں ملتا (قدرت نہیں رکھتے) بیاہ (کی)،

جب تک مقدور دے ان کو اللہ اپنے فضل سے۔

وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ^ط

اور جو لوگ چاہیں لکھا (معاہدہ آزادی) تمہارے ہاتھ کے مال میں،

تو ان کو لکھا (معاہدہ آزادی) دے دو اگر سمجھو ان میں کچھ نیکی۔

وَأْتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ^ج

اور دو ان کو اللہ کے مال سے، جو تم کو دیا ہے۔

وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ^ج

اور نہ زور کرو اپنی چھو کر یوں پر بدکاری کے واسطے،

اگر وہ چاہیں قید میں (پاک دامن) رہنا، کہ کما یا چاہو اسباب دنیا کی زندگانی کا۔

وَمَنْ يُكْرِهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

اور جو کوئی ان پر زور کرے تو اللہ ان کی بے بسی پیچھے بخشنے والا مہربان ہے۔

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ

اور ہم نے اتاریں تمہاری طرف آیتیں کھلی،

وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ

اور ایک دستور ان کا (مثالیں انکی) جو ہو چکے ہیں تم سے آگے (پہلے) اور نصیحت ڈروالوں کو۔

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ^ج

اللہ روشنی (نور) ہے آسمانوں کی اور زمین کی،

مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ^ط

کہاوت اسکی روشنی (نور) کی جیسے ایک طاق اس میں ایک چراغ۔

الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ^ط

چراغ دھرا (رکھا) ایک شیشہ میں۔

الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ

شیشہ جیسے ایک تارا ہے جھمکتا،

يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ

تیل جلتا ہے اس میں ایک درخت برکت کے سے، وہ زیتون ہے، نہ سورج نکلنے کی طرف نہ ڈوبنے کی طرف،

يَكَادُ زَيْتُهَا يُضْيِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ^ج

لگتا ہے اسکا تیل کہ سلگ اٹھے، ابھی نہ لگی ہو اسکو آگ۔

نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ^ط

روشنی پر روشنی، اللہ راہ دیتا ہے اپنی روشنی (نور) کی جس کو چاہے۔

وَيُضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ^ط

اور بتاتا ہے اللہ کہاوتیں لوگوں کو۔ اور اللہ سب چیز جانتا ہے۔

فِي بُيُوتٍ أذنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ

(یہ) ان گھروں میں (ہیں) کہ (جنکے بارے میں) اللہ نے حکم دیا ان کو بلند (تعظیم) کرنے کا

اور وہاں اُس کا نام پڑھنے کا،

يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

یاد (تسبیح) کرتے ہیں اس کی وہاں صبح اور شام۔

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ

وہ مرد کے نہیں غافل ہوتے سودا کرنے میں نہ بیچنے میں اللہ کی یاد سے،

اور نماز کھڑی رکھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے،

يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

ڈر رکھتے ہیں اس دن کا، جس میں اُلٹے جائیں گے دل اور آنکھیں۔

لِيَجْزِيَهمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمُ مِنْ فَضْلِهِ

کہ بدلہ دے ان کو اللہ اُنکے بہتر سے بہتر کاموں کا اور بڑھتی دے ان کو اپنے فضل سے۔

وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بے شمار۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَاهُمْ كَسْرَابٍ بِقَيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً

اور جو لوگ منکر ہیں، اُن کے کام جیسے ریت جنگل میں (سراب)، پیاسا جانے اس کو پانی،

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ^ط

یہاں تک کہ جب پہنچا اس پر اُن کو کچھ نہ پایا، اور اللہ کو پایا اپنے پاس، پھر اس کو پورا پہنچا دیا اس کا لکھا۔

وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

اور اللہ جلد لینے والا ہے حساب۔

أَوْ كُظُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ^ج

یا جیسے اندھیرے گہرے دریا میں، چڑھی آتی ہے اس پر ایک لہر، اُس پر ایک لہر، اُسکے اوپر ایک بدلی۔

ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا^ط

اندھیرے ہیں ایک پر ایک۔ جب نکالے اپنا ہاتھ لگتا نہیں کہ اس کو سوچھے (دکھائی دے)۔

وَمَنْ لَمْ يُجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ

اور جس کو اللہ نے نہ دی روشنی اس کو کہیں نہیں روشنی۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَافَّاتٍ^ط

تُو نے نہ دیکھا، کہ اللہ کی یاد کرتے ہیں جو کوئی ہیں آسمان و زمین میں، اور اڑتے جانور پر کھولے؟

كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ^ط

ہر ایک نے جان رکھی اپنی طرح کی بندگی اور یاد۔

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

اور اللہ کو معلوم ہے جو کرتے ہیں۔

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ^ط

اور اللہ کی حکومت ہے آسمان وزمین میں،

وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

اور اللہ ہی تک پھر جانا (پلٹنا) ہے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا

تُو نے نہ دیکھ کہ اللہ ہانک لاتا (چلاتا) ہے بادل، پھر ان کو ملاتا ہے، پھر ان کو رکھتا ہے تہہ بہ تہہ،

فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ

پھر تُو دیکھے مینہ نکلتا ہے اسکے پیچ سے، اور اتارتا ہے آسمان سے اس میں جو پہاڑ ہیں اولوں کے،

فَيَصِيبُ بِهِنَّ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ^ط

پھر وہ ڈالتا ہے جس پر چاہے اور بچا دیتا ہے جس سے چاہے۔

يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ

ابھی اس کی بجلی کی کوندلے جائے آنکھیں۔

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ^ج

اللہ بدلتا ہے رات اور دن۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ

اس میں دھیان کی جگہ (سبق) ہے آنکھ والوں کو۔

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ^ط

اور اللہ نے بنایا ہر پھرنے والا ایک پانی سے۔

فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ

پھر کوئی ہے کہ چلتا ہے اپنے پیٹ پر،

وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعِ^ج

اور کوئی ہے کہ چلتا ہے دو پاؤں پر، اور کوئی ہے کہ چلتا ہے چار پر۔

يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ^ج

بناتا ہے اللہ جو چاہتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

بیشک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔

لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ^ج

ہم نے اتار دیں آیتیں کھول بتانے والی (واضح)۔

وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

اور اللہ لائے جس کو چاہے سیدھی راہ پر۔

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا

اور لوگ کہتے ہیں ہم نے مانا اللہ کو، اور رسول کو اور حکم میں آئے،

ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ^ج

پھر پھر اجاتا ہے ایک فرقہ ان میں اس پیچھے۔

وَمَا أَوْلِيكَ بِالْمُؤْمِنِينَ

اور وہ لوگ نہیں ماننے والے۔

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذْ اَفْرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ

اور جب ان کو بلائے اللہ اور رسول کی طرف کہ ان میں قضیہ چکا دے،

تب ہی ایک فرقہ ان میں منہ موڑتے ہیں۔

وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ

اور اگر ان کو کچھ پہنچتا ہو (مل رہا ہو کچھ حق) تو چلے آئیں اسکی طرف قبول کر کر۔

أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ امْرَأَتَاؤُا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ^ج

کیا انکے دل میں روگ ہے یا دھوکے میں پڑے ہیں یا ڈرتے ہیں کہ بے انصافی کریگا ان پر اللہ اور رسول اسکا؟

بَلْ أَوْلِيكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

کوئی نہیں، وہی لوگ بے انصاف ہیں۔

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا^ج

ایمان والوں کی بات یہ تھی،

جب بلائے ان کو اللہ اور رسول کی طرف، فیصلہ کرنے کو ان میں کہ کہیں ہم نے سنا اور مانا۔

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

اور وہ لوگ انہی کا بھلا ہے۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

اور جو کئی حکم پر چلے اللہ کے اور اسکے رسول کے اور ڈرتا ہے اللہ سے اور بچ کر چلے اس (کی نافرمانی) سے،

سو وہی لوگ ہیں مراد کو پہنچے۔

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ

اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی اپنی تاکید کی قسمیں کہ اگر تو حکم کرے تو سب کچھ چھوڑ نکلیں،

قُلْ لَا تَقْسِمُوا طَاعَةً مَعْرُوفَةً

تو کہہ قسمیں نہ کھاؤ۔ حکم برداری چاہیے جو دستور ہے۔

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

البتہ اللہ کو خبر ہے جو کرتے ہو۔

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

تو کہہ حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ

پھر اگر تم منہ پھیرو گے، تو اس کا ذمہ ہے جو بوجھ اس پر رکھا اور تمہارا ذمہ ہے جو بوجھ تم پر رکھا۔

وَإِنْ تُطِيعُوا تَهْتَدُوا^ج

اور اگر اس کا کہا مانو تو راہ (ہدایت) پاؤ۔

وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

اور پیغام والے کا ذمہ نہیں مگر پہنچا دینا کھول کر۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وعدہ دیا اللہ نے جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں اور کئے ہیں نیک کام،

لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

البتہ پیچھے حاکم کریگا ان کو ملک میں، جیسا حاکم کیا تھا ان سے اگلوں کو۔

وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا^ج

اور جمادے گا ان کو دین ان کا، جو پسند کر دیا ان کو اور دیگا ان کو ان کے ڈر کے بدلے امن۔

يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكْ بِي شَيْئًا^ج

میری بندگی کریں گے۔ شریک نہ کریں گے میرا کوئی۔

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

اور جو کوئی ناشکری کریگا اس پیچھے، سو وہی لوگ ہیں بے حکم۔

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

اور کھڑی رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور حکم میں چلو رسول کے، شاید تم پر رحم ہو۔

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ^ج

نہ خیال کر کہ یہ جو منکر ہیں تھکا دیں گے بھاگ کر ملک میں۔

وَمَا أُوَاهُمُ النَّارُ ^ط وَلِبئْسَ الْمَصِيرُ

اور ان کو ٹھکانا آگ ہے، اور بُری جگہ ہے پھر جانے کی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

اے ایمان والو! پرواگی (اجازت) مانگ کر آئیں تم میں سے جو تمہارے ہاتھ کا مال ہیں،

وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ^ج

اور جو نہیں پہنچے تم میں عقل کی حد کو تین بار۔

مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ

فجر کی نماز سے پہلے، اور جب اتار رکھتے ہو اپنے کپڑے دوپہر میں اور عشاء کی نماز سے پیچھے،

ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ^ج

یہ تین وقت کھلنے کے ہیں تمہارے۔

لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ ^ج

کچھ گناہ نہیں تم پر نہ ان پر ان کے پیچھے،

طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ^ج

پھر اہی کرتے ہو ایک دوسرے پاس۔

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ^ط

یوں کھولتا ہے اللہ تمہارے آگے باتیں، اور اللہ سب جانتا ہے حکمت والا۔

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ^ج

اور جب پہنچیں لڑکے تم میں عقل کی حد کو تو ویسی پروا لگی (اجازت) لیں جیسے لیتے رہے ہیں ان سے اگلے۔

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ^ط

یوں کھول سنا تا ہے اللہ تم کو اپنی باتیں۔ اور اللہ سب جانتا ہے حکمت والا۔

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا

اور جو بیٹھ رہی ہیں تمہاری عورتوں میں، جن کو توقع نہیں بیاہ کی،

فَلْيَسَّ عَلَيْهِنَ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ

ان پر گناہ نہیں کہ اتار رکھیں اپنے کپڑے، یہ نہیں کہ دکھاتی پھریں اپنا سنگار۔

وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ^ط

اور اس سے بھی بچیں تو بہتر ہے ان کو۔ اور اللہ سب سنتا ہے جانتا۔

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ

نہیں اندھے پر کچھ تکلیف، اور نہ لنگڑے پر تکلیف، اور نہ بیمار پر تکلیف،

وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ

اور نہیں تکلیف تم لوگوں پر کہ کھا لو اپنے گھروں سے،

أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ

یا اپنے باپ کے گھروں سے، یا اپنی ماں کے گھر سے، یا اپنے بھائی کے گھر سے، یا اپنی بہن کے گھر سے،

أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ

یا اپنے چچا کے گھر سے، یا اپنی پھوپھی کے گھر سے، یا اپنے ماموں کے گھر سے، یا اپنی خالہ کے گھر سے،

أَوْ مَا مَلَكَتْهُم مِّمَّا تَحْتَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ^ج

یا جس کی کنجیوں کے مالک ہوئے ہو، یا اپنے دوست کے گھر سے،

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا^ج

نہیں گناہ تم پر کہ کھاؤ مل کر یا جدا۔

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً^ج

پھر جب جانے لگو کبھی گھروں میں تو سلام کہو اپنے لوگوں پر نیک دُعا ہے اللہ کے ہاں سے برکت کی ستھری۔

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

یوں کھولتا ہے اللہ تمہارے آگے باتیں، شاید تم (سمجھ) بوجھ رکھو۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

ایمان والے وہ ہیں جو یقین لائے ہیں اللہ پر اور اسکے رسول پر،

وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ^ج

اور جب ہوتے ہیں اسکے ساتھ کسی جمع ہونے کے کام میں،

تو چلے نہیں جاتے جب تک اس سے پروا نہ لیں (اجازت) نہ لیں۔

إِنَّ الدِّينَ يَسْتَأْذِنُكَ أَوْلِيكَ الدِّينِ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ^ج

جو لوگ تجھ سے پروا لگی (اجازت) لیتے ہیں، وہی ہیں جو مانتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو۔

فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذِنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهُ^ج

پھر جب پروا لگی مانگیں تجھ سے اپنے کسی کام کو تو دے پروا لگی جس کو ان میں تو چاہے،

اور معافی مانگ ان کے واسطے اللہ سے،

إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

اللہ بخشنے والا ہے مہربان۔

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا^ج

مت ٹھہراؤ بلانا رسول کا اپنے اندر برابر اس کے جو بلاتا ہے تم میں ایک کو ایک۔

قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا^ج

اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو تم میں جو سٹک (ھسک) جاتے ہیں آنکھ بچا کر۔

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

سو ڈرتے رہیں جو لوگ خلاف کرتے ہیں اس کے حکم کا، کہ پڑے ان پر کچھ خرابی یا پہنچے ان کو دکھ کی مار۔

أَلَا إِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ^{صلے}

سنتے ہو اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمان و زمین میں۔

.63

.64

قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا

اس کو معلوم ہے جس حال میں تم ہو۔

اور جس دن پھیرے جائیں گے اس کی طرف تو بتائے گا ان کو جو انہوں نے کیا۔

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

اور اللہ سب چیز جانتا ہے۔

© Copy Rights:
Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana
Lahore, Pakistan
www.quran4u.com